



اٹزم مسجد ہماری اس کاوش کا نام ہے جس میں ہماری کوشش ہے کہ مساجد میں اور مسلمان کمیونٹی میں اٹزم سے متاثرہ افراد کے بارے میں آگاہی دی جاسکے۔

اقوام متحدہ کے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی پندرہ (۱۵) فیصد آبادی کسی صورت کی ذہنی معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔

۳۰ مارچ ۲۰۲۰ سے لے کر ۵ اپریل ۲۰۲۰ تک دنیا بھر میں اٹزم سے آگاہی کا عالمی ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اس ہی مناسبت سے ہماری یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مساجد، مصلے، اسلامی تنظیمیں اور امام جمعہ ۳ اپریل کو ذہنی معذوری اور خصوصاً اٹزم کو اپنے خطبے کا موضوع بنائیں۔

ہماری ماہرین کی ٹیم نے اس حوالے سے ایک موزوں خطبہ ترتیب دیا ہے اور اس مہم میں ہمارا حصہ دینے والے تمام افراد کو اس خطبے کی کاپی ارسال کر دی جائے گی۔ مساجد اور علماء کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اس ہی خطبہ کو استعمال کریں لیکن ہماری خواہش ہوگی کہ وہ ذہنی معذوری اور اٹزم کو اپنا موضوع ضرور بنائیں۔

اس مہم کو تمام ذرائع ابلاغ سے ہر طرف پہنچانے کی کوشش کی جارہی ہے اور امید ہے کہ یہ پہلا موقع ہوگا جب پوری دنیا میں ساری امت ایک روز، ایک وقت میں ایک ہی پیغام کی ترویج میں اپنا حصہ ڈالے گی۔ ہماری یہ امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کریم امت میں مزید اتحاد اور یگانگت کی راہیں ہموار کرے۔ ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اپنی مقامی مسجد، اسلامی تنظیم اور مصلے کی انتظامیہ سے اس فارم کو پر کرنے کی گزارش کیجیے

www.autismmosque.org/khutbah

اٹزم مسجد کی سوشل میڈیا سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان لنکس پر کلک کیجیے
www.facebook.com/autismmosque #autismmosque
www.instagram.com/autismmosque
www.twitter.com/autismmosque

مزید تفصیلات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے

info@autismmosque.org

اس پیغام کو مزید افراد تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اس کے شیئر کیجیے۔

Autism Mosque is a project of The Elevate Movement. A limited by guarantee charitable company. Registered in England and Wales. Registration Number 12380189. Registered Office 79 College Road Harrow Middlesex HA1 1BD. www.autismmosque.org